

83283- ترکہ میں چھوڑے ہوئے گھر کے کرایہ کی تقسیم

سوال

کیا وراثت میں چھوڑے گئے گھر کا کرایہ بھی اسی قاعدہ اور اصول کے تحت تقسیم کیا جائیگا کہ ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے حصہ کے برابر دیا جائے؟

پسندیدہ جواب

اول :

اگر میت نے اپنے پیچھے اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں چھوڑی ہوں تو ہم میت کے والد اور والدہ یا بیوی سے شروع کریں گے، تو یہ افراد اپنا حصہ لیں گے اور جو کچھ ترکہ سے باقی بچے وہ اولاد میں اس طرح تقسیم کیا جائیگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے: کہ ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارہ میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے﴾۔ النساء (11).

اور اسی طرح اگر میت کے سگھے بھائی اور بہنیں یا پھر والد کی طرف سے بن بھائی وارث بنیں تو انہیں ترکہ میں سے ان کا حق اس اصول کے تحت تقسیم کیا جائیگا کہ ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے حصہ کے برابر ملے گا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿اور اگر وہ کئی بھائی اور بہنیں ہوں تو مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے﴾۔ النساء (176).

اہل علم کے ہاں یہ متفق اور مجمع علیہ مسئلہ ہے۔

ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں :

"اور سورۃ النساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان :

﴿اور اگر وہ بھائی مرد اور عورتیں ہوں تو ایک مرد کا دو عورتوں کے برابر حصہ ہے﴾۔

دور قدیم اور دور جدید کے مسلمان علماء کرام کا کوئی اختلاف نہیں کہ ماں کی طرف سے بھائی کی وراثت اس طرح نہیں، تو ان کا اجماع اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس آیت میں مذکور بھائیوں سے مراد میت کے ماں اور باپ کی طرف سے بھائی (سگھے) ہیں، یا پھر باپ کی طرف سے "انتہی"۔

ماخوذ از: التمشید (200/5) اور المغنی ابن قدامہ (162/6) بھی دیکھیں۔

فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (530/16).

لیکن ماں کی طرف سے بھائی برابری کے حساب سے وارث ہونگے، ان کے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿اور اگر وہ میت کلالہ ہو چاہے مرد ہو یا عورت اس کا بھائی یا بہن ہو تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں سب شریک ہیں﴾ النساء (12).

کلالہ اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کا نہ تو باپ ہو اور نہ ہی اولاد، تو ماں کی جانب سے بھائی اس شرط پر وارث بنے گا کہ : میت کی نہ تو اصل یعنی باپ اور نہ ہی فرع یعنی بیٹا ہو، اور اس کا حصہ چھٹا حصہ ہے، لیکن اگر ایک سے زائد ہوں چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں تو وہ ایک تہائی میں شریک ہونگے اور ایک تہائی ان سب میں برابر برابر تقسیم ہوگا.

دوم :

رہا مسئلہ وراثت میں چھوڑے گئے گھر کے کرایہ کا تو یہ کرایہ اس حساب سے تقسیم کیا جائیگا جتنا اس گھر میں کسی کا حصہ ہے، جب وہ اس گھر کی ملکیت کے اس طرح حقدار ہیں کہ مرد کو دو عورتوں کے برابر ملنا ہے تو پھر کرایہ بھی اسی حساب سے تقسیم کیا جائیگا.

واللہ اعلم.